```
کیا ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے رکھناستر ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے بہتر ہے؟
                                                                                                                                                                                                                                                                   جواب
                           ن طروز (385<u>2) نیں</u>اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : (ماہ رمضان کے روزے مدینہ میں رکھنے کا ثواب دیگر شہروں میں رکھنے سے ایک ہزارگناہ ہتر ہے، اور نماز جمعہ مدینہ منورہ میں اداکرنا دیگر جھوں میں اداکرنے سے ہزارگنا ہتر ہے)
                                                                                                                                                                                                                                         "اس کی سند سر ہے سے ضعیف ہے"
                                                                                                                                                                           یر" (1144) میں بلال بن حارث سے روایت کیا ہے ، اوراس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کستے میں :
                                                                                                                                                                                                                                      بہ باطل ہے اور سنداندھیر نگری ہے "انتہی
                                                                                                                                                                                                                                            "ميزان الاعتدال" (473/2)
                                                                                                                                                                                                                                                              يْرِيْنِ(7\18/2-
                                                                                                                                                                                                           جبکہ قاسم بن عبداللہ کوامام احداورا بن معین نے "کذاب" قرار دیا ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                            ں"(3/371)"
                                                                                                                                                                                                                                          م شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں:
                                                                                                                                                                                                                                        "جھوٹے سرغنوں میں سے ایک ہے"
                                                                                                                                                                                                                                          نہ (831) میں نقل کرکے کہا ہے کہ:
                                                                                                                                                                                                                                                     " يەروايت باطل ہے"
                                                                                                                                                                                                                                                              يت"(1297ية.
ا البرات المان المان الله المان الله عليه وسلم نے فرایا : (جو کم میں ماہ رمضان پائے اوروہیں پر روزے رکھے اور جتنا اس سے ہوسکے رات کو قیام کرے تواللہ تعالی اس کیلیے کمہ کے علاوہ دیٹر شہروں کے ایک الکھ رمضا نوں کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لیے ہر دن ک
                                                                                                                                                                                                                                                 " یہ روایت من گھڑت ہے"
     للے سوال نمبر : (12<u>38 ک</u>روجاب میں گزرچا ہے کہ : کسی جگہ اوروقت کی فسیلت کے باعث وہاں گی گئی نیکیا یا ہری میں جی اضافہ ہوتا ہے ، نیز یہ بھی گزرچا ہے کہ نیکیوں میں ہونے والااضافہ مقدار اور معیار دونوں انداز سے ہوتا ہے جبکہ بدی میں ہونے والااضافہ صرف معیار لیعنی کیفیت میں ہوتا ہے۔
                                                                                                                                             اں لیے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں روزے رکھنے کا مقام و مرتبہ دیگر جگھوں پر روزے رکھنے سے زیادہ ہے؛ کیونکہ یہ دونوں جگمیں معززترین ہیں۔
                                                                          ن یہ نہیں کہا جاستا کہ ان چھوں میں روزہ رکھنا دیگر چھوں میں روزہ رکھنے سے ستر ، یا ہزاریا اس سے کم و میش گنا زیادہ ہے ؛ کیونکہ کسی چگہ پر ثواب کے کم یازیادہ ہونے کی حدیثہ کا کمیلیے صبح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                     فابن بازرحمه الله كهية بين:
لیکن ان کے بارے میں کوئی حدبندی بیان نہیں کی گئی، حدبندی صرف نماز کے اجرمے متعلق ہے، چانچہ دیگر عبادات مثلاً : روزہ ، ذکر واذکار، تلاوتِ قرآن ،صدقہ وغیرہ کے بارے میں مجھے کسی ثابت شدہ نص اور دلیل کاعلم نہیں ہے جس میں ان کے ثواب کی عدبندی بھی بیان کی گئی ہو، چنانچہ اجمالی طور
                                                                                                                                                                                                                                         " مجموع فياوي ابن باز" (388/3)
                                                                                                                                                                                                                                                  نا بن عشميين رحمه الله كيت مين:
                                                                                                                                                                                                                                               "الشرح الممتع" (514/6)
```